

# Lam

## Chapter 3

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	אָנִי میں	הַנֶּזֶק - آدمی	רָאָה دیکھی - میں نے	עָנִי مصیبت	בְּשָׂמָה - چھڑی - سے	עֲבָרְתָּוּ: اُس - کے - غضب - کی
	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H1397</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H6040</a>	<a href="#">H7626</a>	<a href="#">H5678</a>

بے-ربی دے تربیت مجھے لائھی کی اسی ہے، ہوا نازل پر مجھ غضب کا رب کہ ہے رہا ہو لئے اس کچھ سب یہ اور پڑا!! اُنہانا دُکھ کتنا مجھے ہائے،

2	אוֹתִי مجھے	בָּנָה بانکا	וַיִּלְאֵךְ اور - لے - گیا	הִשְׁקָה اندھیرے - میں	וְלֹא - اور - نہیں	אֶזְרָא: روشنی - میں
	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H2822</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0216</a>

آئی - نہیں نظر روشنی بھی کہیں دیا، چلنے میں تاریکی کر بانک بانک مجھے نے اُس

3	אֶדָּה بے - شک	בִּי مجھ - پر	יִשָּׁב پھرتا - ہے	וַיִּפְּדֵנִי پلگتا - ہے	יָדָו اپنا - ہاتھ	הַיּוֹם: - دن
	<a href="#">H0389</a>		<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H2015</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H3117</a>

بے-ربتا اُنہاتا خلاف میرے ہاتھ اپنا بار بار وہ روزانہ

4	בָּלָה گھسا - دیا	בְּשָׂרִי میرا - گوشت	וַעֲזָרִי اور - میری - کھال	שָׂבַר توڑ - دیا	עֲצָמוֹתַי: میری - ہڈیاں
	<a href="#">H1086</a>	<a href="#">H1320</a>	<a href="#">H5785</a>	<a href="#">H7665</a>	<a href="#">H6106</a>

ڈالا - توڑ کو ہڈیوں میری دیا، سڑنے کو جلد اور جسم میرے نے اُس

5	בָּנָה بنایا	עָלַי میرے - خلاف	וַיִּקַּח اور - گھیر - لیا	רֵאשׁ سر	וַתִּלְאָה: اور - تھکاوت
	<a href="#">H1129</a>		<a href="#">H7219</a>	<a href="#">H8513</a>	

دی - کر کھڑی گرد ارد میرے دیوار کی مصیبت سخت اور زہر نے اُس کر گھیر مجھے

6	בְּמַחְשָׁבִים اندھیروں - میں	הוֹשִׁיבִנִי بٹھایا - مجھے	כִּמְתִי مردوں - کی - طرح	עוֹלָם: قدیم	ס
	<a href="#">H4285</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H5769</a>	-

ہیں - پڑے میں قبر سے دیر بڑی جو ہوں مانند کی اُن میں اب بسایا - میں تاریکی مجھے نے اُس

7	נָדָר ڈھانپ - دیا	בְּעָרִי میرے - گرد	וְלֹא اور - نہیں	אֶצְאָה سکتا - نکل	הַכְּבִיר بھاری - کی	נִחְשָׁתִי: میری - زنجیر
	<a href="#">H1443</a>	<a href="#">H1157</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3318</a>	<a href="#">H3513</a>	

سکتا - نہیں نکل میں سے جن کیں کھڑی دیواریں ایسی گرد ارد میرے کر جکڑ میں زنجیروں بھاری کی پیتل مجھے نے اُس

8	נָם بھی	כִּי جب	אֶזְעַק چلاتا - ہوں	וַאֲשׁוּעַ اور - فریاد - کرتا - ہوں	שָׁתָם بند - کر - دیا	תְּפִלָּתִי: میری - دعا
	<a href="#">H1571</a>		<a href="#">H2199</a>	<a href="#">H7768</a>	<a href="#">H8605</a>	

دیتا - نہیں پہنچنے حضور اپنے التجائیں میری وہ ماروں نہ کیوں چیخیں کتنی لئے کے مدد میں خواہ

9	נָדָר روک - دیا	דְּרָכִי میرے - راستے	בְּנִיזִית تراشے - ہوئے - پتھروں - سے	נְחִיכָתִי میری - رابیں	עֲנֵה: ٹیڑھی - کر - دیں	ס
	<a href="#">H1443</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H1496</a>		-	

ہیں۔ گئے بن بھلیاں بھول راستے تمام میرے لیا۔ روک مجھے سے دیوار مضبوط کی پتھروں تراشے نے اُس وہاں چاہوں چلنا میں بھی جہاں

10	רָב	אָרֶב	הוּא	לִי	[אָרִיחַ] (אָרִי)	בְּמִסְתָּרִים:
	ریچھ	گھات-میں-بیٹھا	بے	میرے-لیے	شیر	شیر
	<a href="#">H1677</a>	<a href="#">H0693</a>	<a href="#">H1931</a>			<a href="#">H4565</a>

گیا۔ چھپ لگائے تاک میری طرح کی شیربیر گیا، بیٹھ میں گھات میری طرح کی ریچھ اللہ

11	דְּרָכִי	סוּרָר	וַיִּפְשְׁחֵנִי	שָׁמְנִי	שָׁמֵם:
	میرے-راستے	بھٹکا-دیا	اور-نکڑے-نکڑے-کیا-مجھے	کر-دیا-مجھے	ویران
	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H5493</a>	<a href="#">H6582</a>		<a href="#">H8076</a>

دیا۔ چھوڑ بے سہارا کر پھاڑ مجھے پھر دیا، بھٹکا سے راستے صحیح مجھے نے اُس

12	דְּרָדָּךְ	קָשְׁתוֹ	וַיִּצְיִדְנִי	כַּמְטָרָא	לְחִי: ס
	تانا	اپنی-کمان	اور-کھڑا-کیا-مجھے	نشانے-کی-طرح	تیر-کے-لیے
	<a href="#">H1869</a>	<a href="#">H7198</a>	<a href="#">H5324</a>	<a href="#">H4307</a>	<a href="#">H2671</a>

بنایا۔ نشانہ کا تیروں اپنے مجھے نے اُس کر تان کو کمان اپنی

13	הִבִּיאַ	בְּכַלְיוֹתַי	בְּנִי	אֲשַׁפְּתוֹ:
	لایا	میرے-گردوں-میں	بیٹے	اپنے-ترکش-کے
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H3629</a>		<a href="#">H0827</a>

ڈالا۔ چیر کو گردوں میرے نے تیروں کے اُس

14	הַיִּיתִי	שָׁחֵק	לְכָל-	עַמִּי	בְּיַדְּךָ	הַיּוֹם:
	ہو-گیا-میں	بنسی	ساری-میری-قوم-کے-لیے	میری-قوم-کے-لیے	اُن-کا-گیت	سارا
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H7814</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H5058</a>	<a href="#">H3605</a>

ہیں۔ کرتے طعن لعن مجھے میں گیتوں اپنے دن پورے وہ ہوں۔ گیا بن نشانہ کا مذاق لئے کے قوم پوری اپنی میں

15	הַשְּׂבִיעֵנִי	בְּמַרְוָרִים	הַרְנִנִי	לְעֵנָה:	ס
	سیر-کیا-مجھے	کڑواہٹ-سے	پلایا-مجھے	ناگدونا-سے	-
	<a href="#">H7646</a>	<a href="#">H4844</a>	<a href="#">H7301</a>	<a href="#">H3939</a>	

پلایا۔ پیالہ کا تلخی ناگوار مجھے کیا، سیر سے زہر کڑوے مجھے نے اللہ

16	וַיִּנְדָּס	בְּחֻצְיָךְ	שָׁנִי	הַכְּפִישֵׁנִי	בְּאֶפְרָי:
	اور-توڑ-دیے	کنکریوں-سے	میرے-دانت	دباپا-مجھے	راکھ-میں
	<a href="#">H1638</a>	<a href="#">H2687</a>	<a href="#">H8127</a>	<a href="#">H3728</a>	<a href="#">H0665</a>

دیا۔ ملا میں خاک کر کچل مجھے دی، چبانے بجری کو دانتوں میرے نے اُس

17	וַתִּזְנַח	מִשְׁלֹחַם	נִפְשִׁי	נְשִׁיתִי	טוֹבָה:
	اور-ڈور-کیا	سلامتی-سے	میری-جان-کو	بھول-گیا-میں	بھلائی
	<a href="#">H7965</a>		<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H5382</a>	

ہوں۔ گیا ہی بھول مزہ کا حالی خوش میں اب گیا، لیا چھین سکون سے جان میری

18	וְאָמַר	אָבָר	נִצְחִי	וַתִּזְחַלְתִּי	מִיְהוָה:
	اور-کہا-میں-نے	فنا-ہو-گئی	میری-قوت	اور-میری-امید	یہوواہ-سے
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0006</a>	<a href="#">H5331</a>	<a href="#">H8431</a>	<a href="#">H3068</a>

ہے۔ [ر]بی جاتی امید میری سے پر رب اور شان [م] میری بولا، میں چنانچہ

19	זָכַר-	עָנְנִי	וּמְרוֹדִי	לְעֵנָה	וְרָאשׁ:
	یاد-کر	میری-مصیبت	اور-میری-آوارگی	ناگدونا	اور-زہر
	<a href="#">H2142</a>	<a href="#">H6040</a>	<a href="#">H4788</a>	<a href="#">H3939</a>	<a href="#">H7219</a>

بے-مانند کی زبر کڑوے خیال کا حالت بے-وطن اور دہ تکلیف میری

20	זָכוֹר	תְּזַכֵּר	וְתַשִּׁיחַ	(וְתַשִּׁיחַ)	עָלַי	נַפְשִׁי:
	یاد-کرتے-ہوئے	یاد-کرے-گا-تُو	اور-جھکتی-ہے	اور-جھکے-گی	مجھ-پر	میری-جان
	<a href="#">H2142</a>	<a href="#">H2142</a>	<a href="#">H7743</a>	<a href="#">H7743</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H5315</a>

بے-جاتی دب اندر میرے وہ سوچتے سوچتے ہے، ربتی آتی یاد کی اُس کو جان میری تو بھی

21	זָאת	אָשִׁיב	אֶל-	לְבִי	עָל-	כִּן	אוֹחִיל:	ס
	یہ	لاؤنگا-میں	اپنے	دل-میں	اِس	لیے	امید-رکھتا-ہوں-میں	-
	<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0413</a>				<a href="#">H3176</a>	

ہوں، لاتا میں ذہن بار بار میں یہی اور ہے، رہی اُمید کی بات ایک مجھے لیکن

22	חַסְדֵי	יְהוָה	כִּי	לֹא-	תִּמְנוּ	כִּי	לֹא-	כָלוּ	רַחֲמָיו:
	رحمتیں	یہوواہ-کی	کیونکہ	نہیں	ختم-ہوئیں	کیونکہ	نہیں	ٹھہریں	اُس-کی-رحمانیاں
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H8552</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3615</a>	<a href="#">H3176</a>

ہوتی نہیں ختم کبھی شفقت کی اُس کیونکہ ہوئے۔ نہیں نابود و نیست ہم کہ بے مہربانی کی رب

23	חַדְשֵׁים	לְבָבָיִם	רָבָה	אֶמְוִנְךָ:
	نئیں-ہیں	بر-صبح	بڑی-ہے	تیری-وفاداری
	<a href="#">H2319</a>	<a href="#">H1242</a>		<a href="#">H0530</a>

بے-عظیم وفاداری تیری آقا، میرے اے بے۔ اُٹھتی چمک پر ہم نو سر از صبح ہر بلکہ

24	חֶלְקִי	יְהוָה	אָמְרָה	נַפְשִׁי	עָל-	כִּן	אוֹחִיל	לֹא:	ס
	میرا-حصہ	یہوواہ	کہا-میری-جان-نے	میری-جان-نے	اِس	لیے	امید-رکھونگی-میں	اُس-پر	-
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H3176</a>					

گی۔[] رہوں میں انتظار کے اُس میں لئے اِس ہے، حصہ مروٹی میرا [] رب ہے، کہتی جان میری

25	טוֹב	יְהוָה	לְקוֹנֵי	לְנַפְשִׁי	כִּן	אוֹחִיל	תְּדַרְשֵׁנוּ:
	بہلا-ہے	یہوواہ	اُس-کا-انتظار-کرنے-والوں-کے-لیے	-جان-کے-لیے	جو-نلاش-کرے-اُس-کی		
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H1875</a>				

ہیں۔ربتے طالب کے اُس کر رکھ اُمید پر اُس جو بے مہربان پر اُن رب کیونکہ

26	טוֹב	וַיְחִיל	וְדוֹמָם	לְחַשְׁעַת	יְהוָה:
	بہلا-ہے	اور-امید-رکھے	اور-خاموشی-سے	نجات-کے-لیے	یہوواہ-کی
	<a href="#">H3175</a>	<a href="#">H1748</a>	<a href="#">H8668</a>	<a href="#">H3068</a>	

رہیں۔میں انتظار کے نجات کی رب سے خاموشی ہم کہ بے اچھا چنانچہ

27	טוֹב	לְזָכָר	כִּי-	יִשָּׂא	עָל	בְּנְעוּרָיו:	ס
	بہلا-ہے	-آدمی-کے-لیے	کیونکہ	اُٹھئے	جوا	اپنی-جوانی-میں	-
	<a href="#">H1397</a>	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H5923</a>				

پھرے۔اُٹھائے جوا کا اللہ میں جوانی انسان کہ بے اچھا

28	יִשָּׁב	בְּדָר	וַיִּדָּם	כִּי	נָטַל	עָלָיו:
	بیٹھے	اکیلے	اور-خاموش-رہے	کیونکہ	ڈالا-ہے	اُس-پر
	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H0910</a>	<a href="#">H5190</a>			

جائے۔بیٹھ میں تنہائی سے چپکے وہ تو جائے رکھا پر گردن کی اُس جوا جب

29	יָתֵן	בְּעָפָר	פִּיהוּ	אוֹלֵי	יֵשׁ	תְּקוּהָ:
	لگائے	-خاک-میں	اپنا-منہ	شاید	بے	امید
	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H6083</a>	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H0194</a>	<a href="#">H3426</a>	

ہو۔ امید تک ابھی شاید جائے، ہو منہ اوندھے میں خاک وہ

30	יָתֵן	לְמַכְהוֹ	לְחַי	יִשְׁבְּעַ	בְּחֶרְפָּה:	ס
	پیش-کرے	مارنے-والے-کے-آگے	گال	سیر-ہو	رسوائی-سے	-
	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H5221</a>	<a href="#">H3895</a>	<a href="#">H7646</a>	<a href="#">H2781</a>	

کرے۔ برداشت رسوائی کی طرح ہر سے چپکے کرے، پیش گال اپنا کو والے مارنے وہ

31	כִּי	לֹא	יִזְנַח	לְעוֹלָם	אֲדָנִי:	ס
	کیونکہ	نہیں	ترک-کرتا	بمیشہ-کے-لیے	خداوند	-
	<a href="#">H3808</a>			<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H0136</a>	

کرتا۔ نہیں رد تک ہمیشہ کو انسان رب کیونکہ

32	כִּי	אִם-	הוֹזֵה	וְרַחֵם	כְּלָב	[חַסְדוֹ]	(חֶסְדָּיו):
	کیونکہ	اگر	غمگین-کرتا-ہے	اور-رحم-کرتا-ہے	فراوانی-کے-مطابق	اپنی-رحمتوں	اپنی-رحمتوں-کے
			<a href="#">H3013</a>	<a href="#">H7355</a>	<a href="#">H7230</a>		

ہے۔ کرتا رحم دوبارہ پر اُس آخرکار وہ تو بھی پہنچائے دکھ کو انسان کبھی وہ گو کہ ہے عظیم اتنی شفقت کی اُس

33	כִּי	לֹא	עָנָה	מִלְבָּד	וַיִּגָּה	בְּנִי-	אִישׁ:	ס
	کیونکہ	نہیں	مصیبت-دیتا-ہے	اپنے-دل-سے	اور-غمگین-کرتا-ہے	بیٹوں	آدمی-کے	-
	<a href="#">H3808</a>				<a href="#">H3013</a>		<a href="#">H0376</a>	

کرتا۔ نہیں محسوس خوشی میں پہنچانے غم اور دبانے کو انسان وہ کیونکہ

34	לְדַכָּא	תַּחַת	רַגְלָיו	כָּל	אֲסִירֵי	אֶרֶץ:	ס
	کچلنا	نیچے	اپنے-پاؤں	سب	قیدیوں	زمین-کے	-
	<a href="#">H1792</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H7272</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0615</a>	<a href="#">H0776</a>	

ہے۔ ربا جا کچلا تلے پاؤں کو قیدیوں تمام میں ملک

35	לְהַטּוֹת	מִשְׁפָּט-	זָכַר	נָגַד	פָּנֵי	עֲלִיזוֹן:	ס
	جھکانا	انصاف	آدمی-کا	سامنے	چہرے	علی-کے	-
	<a href="#">H5186</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H1397</a>	<a href="#">H5048</a>	<a href="#">H6440</a>		

ہے، ربی جا کی تلفی حق کی انسان دیکھتے دیکھتے کے تعالیٰ اللہ

36	לְעֵינַי	אָדָם	בְּרִיבוֹ	אֲדָנִי	לֹא	רָאָה:	ס
	ہے-انصافی-کرنا	آدمی-کے-ساتھ	اُس-کے-مقدمے-میں	خداوند	نہیں	دیکھتا	-
	<a href="#">H5791</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H7379</a>	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7200</a>	

ہے۔ آتا نظر کچھ سب یہ کو رب لیکن ہے۔ ربا جا مارا حق کا لوگوں میں عدالت

37	מִי	זָה	אָמַר	וַתְּהִי	אֲדָנִי	לֹא	צָנְהָ:	ס
	کون	یہ	کہا	اور-ہو-گیا	خداوند-نے	نہیں	حکم-دیا-تھا	-
	<a href="#">H4310</a>	<a href="#">H2088</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H0136</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H6680</a>	

ہو؟ دیا نہ حکم کا اِس نے رب اگر ہے سکتا کروا کچھ کون

38	מִפִּי	עֲלִיזוֹן	לֹא	תֵצֵא	הַרְעוֹת	וְהַטּוֹב:	ס
	-مند-سے	علی-کے	نہیں	نکلتنیں	بُرائیاں	اور-بھلائیاں	-
	<a href="#">H6310</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3318</a>			

ہیں۔ آتی میں وجود پر فرمان کے تعالیٰ اللہ دونوں چیزیں اچھی اور آفتیں

39	מֵהָ-	יִתְאֲזִיבֶן	אָדָם	חַי	נָפֵר	עַל-	[חַטָּאוֹ]	(חֶטְאָיו):	ס
	کیوں	شکوہ-کرے	آدمی	زندہ	مرد	پر	اپنے-گناہوں	اپنے-گناہوں	-
	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H0596</a>	<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H1397</a>		<a href="#">H2399</a>	<a href="#">H2399</a>	<a href="#">H2399</a>	

کرے؟ شکایت پر پانے سزا کی گناہوں اپنے کون سے میں انسانوں پھر تو

40	נַחֲפָשָׁה	דָּרְכֵינוּ	וְנַחֲקָרָה	וְנִשְׁוֶבָה	עַד-	יְהוָה:
	جانچیں	اپنے-راستے	اور-جانچیں	اور-لوٹیں	تک	یہوواہ
	<a href="#">H2664</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H2713</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H3068</a>

آئیں۔ واپس پاس کے رب کر جانچ طرح اچھی اُسے لیں، جائزہ کا چلن چال اپنے ہم آؤ،

41	נִשָּׂא	לְבָבְנוּ	אֶל-	כַּפִּים	אֶל-	אֵל	בְּשָׁמַיִם:
	اُٹھائیں	اپنا-دل	اپنے	باتھوں-کی-طرف	کی-طرف	خدا	آسمانوں-میں
	<a href="#">H5375</a>	<a href="#">H3824</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3709</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0410</a>	<a href="#">H8064</a>

ہے۔ اللہ جہاں کریں مائل طرف کی آسمان سمیت باتھوں کو دل اپنے ہم

42	נָחַנוּ	פְּשַׁעֵנוּ	וּמְרִינוּ	אֶתָּה	לֹא	סִלַּחְתָּ:	ס
	ہم	گناہ-کیا	اور-سرکشی-کی	تُو-نے	نہیں	معاف-کیا	-
	<a href="#">H5168</a>	<a href="#">H6586</a>	<a href="#">H4784</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5545</a>	<a href="#">H5545</a>	

کیا۔ نہیں معاف ہمیں نے تُو اور ہیں، گئے ہو سرکش کر ہو بے وفا [ہم کریں، اقرار ہم

43	סִלַּחְתָּ	בְּאֵר	וְתִדְרֹפְנוּ	הַרְגָתָ	לֹא	חַמְלָתָ:
	ڈھانپ-دیا-تُو-نے	-غضب-میں	اور-پیچھا-کیا-ہمیں	قتل-کیا-تُو-نے	نہیں	رحم-کیا-تُو-نے
	<a href="#">H0639</a>	<a href="#">H7291</a>	<a href="#">H2026</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H2550</a>	<a href="#">H2550</a>

گیا۔ مارتا ہمیں سے بے رحمی لگا، کرنے تعاقب ہمارا کر چھپ پیچھے کے پردے کے قہر اپنے تُو

44	סִפּוֹתָה	בְּעָוֹן	לְךָ	מִעֲבוֹר	תְּפִלָּה:
	ڈھانپ-لیا-تُو-نے	-بادل-میں	اپنے-آپ-کو	گزرنے-سے	دعا
	<a href="#">H6051</a>	<a href="#">H8605</a>			

سکتی۔ پہنچ نہیں تک تجھ دعا بھی کوئی کہ بے گیا چھپ یوں میں بادل تُو

45	סָחִי	וּמְאֹס	הַשִּׁימֹנוּ	בְּקֶרֶב	הָעַמִּים:	ס
	گندگی	اور-کوڑا	بنا-دیا-ہمیں-تُو-نے	درمیان	قوموں-کے	-
	<a href="#">H5501</a>	<a href="#">H3973</a>	<a href="#">H7130</a>			

دیا۔ بنا کرکٹ کوڑا درمیان کے اقوام ہمیں نے تُو

46	פָּצוּ	עַלֵינוּ	פִּיהֶם	כָּל-	אֵיבֵינוּ:
	کھولے	ہم-پر	اپنے-منہ	سب	ہمارے-دشمنوں-نے
	<a href="#">H6475</a>	<a href="#">H6310</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0341</a>	

ہیں۔ دیتے طعنے ہمیں دشمن تمام ہمارے

47	פָּחַד	וּפָחַת	הָיָה	לָנוּ	הַשָּׂאת	וְהַשְּׁבֵר:
	خوف	اور-گڑھا	ہوا	ہم-پر	تباہی	اور-تباہی
	<a href="#">H6343</a>	<a href="#">H6354</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H7612</a>	<a href="#">H7667</a>	

ہیں۔ [گئے ہو تباہ کر گر سے دھڑام ہم ہیں، میں نصیب ہمارے گڑھے اور دہشت

48	פָּלִינִי-	מוֹם	תָּרַד	עֵינִי	עַל-	שֶׁבֶר	בַּת-	עַמִּי:	ס
	نہیں	پانی-کی	بہتی-ہے	میری-آنکھ	پر	تباہی	بیٹی	میری-قوم-کی	-
	<a href="#">H6388</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H3381</a>	<a href="#">H7667</a>	<a href="#">H1323</a>				

ہے۔ گئی ہو تباہ قوم میری کہ ہوں رہا رو لئے [اس میں ہیں، گئے بن ندیاں کر ٹپک ٹپک سے آنکھوں میری آنسو

49	עֵינִי	נִגְרָה	וְלֹא	תִדְמָה	מֵאִין	הַפְּנוּת:
	میری-آنکھ	بہتی-ہے	اور-نہیں	رکتی	بغیر	آرام
	<a href="#">H5064</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1820</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H2014</a>	

گے رہیں جاری تک وقت اُس بلکہ سکتے نہیں رُک اُنسو میرے

50 עַד- יִשְׁקִיף וְיָרָא יְהוָה מִשְׁמַיִם:  
جب-تک جھانکے اور-دیکھے یہوواہ آسمان-سے  
H5704 H8259 H7200 H3068 H8064

دے۔ نہ دھیان پر مجھ کر جھانک سے آسمان رب تک جب

51 עֵינַי עוֹלָלָה לְנַפְשִׁי מִכָּל בְּנוֹת עִירִי:  
میری-آنکھ دکھ-دیتی-ہے میری-جان-کو سب-سے بیٹیوں میرے-شہر-کی  
H5315 H3605 H1323

ہے۔ رہا ہو چھلنی دل میرا کر دیکھ سلوک کا دشمن سے عورتوں کی شہر اپنے

52 צוֹר שָׂכָר צָדוֹנִי כַּצְפוֹר אֵיבִי הָנָם:  
شکار شکار-کیا-مجھے پرندے-کی-طرح میرے-دشمنوں-نے ہے-وجہ  
H6833 H0341 H2600

کیا۔ شکار میرا طرح کی پرندے نے اُنہوں ہیں دشمن میرے بلاوجہ جو

53 צָמְחוּ כָּמֹשׁ כִּי צָבֹר גָּזְזֵי מִיָּדַי חַיִּי וְיָדָוּ אֶבֶן בֵּי:  
خاموش-کیا گزے-میں میری-زندگی اور-پھینکا پتھر مجھ-پر  
H6789 H3034 H0068

دیئے۔ پھینک پتھر پر مجھ کر ڈال میں گڑھے لئے کے مارنے سے جان مجھے نے اُنہوں

54 צָפוֹ- מִים עַל- רֹאשִׁי אֲמַרְתִּי נִנְדַרְתִּי:  
بہ-گئے پانی پر میرے-سر کہا-میں-نے کٹ-گیا-میں  
H4325 H6687 H0559 H1504

ہے۔ گیا کٹ دھاگا کا زندگی میں میری بولا، میں گیا۔ ڈوب میں پانی سر میرا اور آیا، پر مجھ سیلاب

55 קָרָאתִי שְׁמוֹד יְהוָה מְבוֹר תַּחֲתֵינִי:  
پکارا-میں-نے تیرا-نام یہوواہ گڑھے-سے گہرے  
H7121 H8034 H3068 H8482

پکارا۔ کو نام تیرے نے میں تو تھا میں گہرائیوں کی گڑھے میں جب رب، اے

56 קוֹלִי מִרֵּי אָזַן אֶל- תַּעֲלֹם לְרוּחֹתֵי לְשׁוֹעָתִי:  
میری-آواز سنی-ٹو-نے نہ چھپا اپنا-کان میری-راحت-سے میری-فریاد-سے  
H8085 H0408 H5956 H0241 H7309 H7775

سنی۔ میری نے ٹو اور سن! چیخیں اور آہیں میری بلکہ رکھ نہ بند کان اپنا کی، التجا نے میں

57 קָרַבְתָּ בְּיָמַי אֶקְרָאךָ אֶמְרָתְךָ אֶל- תִּירָא:  
نزدیک-آیا-ٹو دن-میں پکارا-میں-نے-تجھے کہا-ٹو-نے نہ ڈر  
H7126 H3117 H7121 H0559 H0408 H3372

کہا۔ نہ خوف فرمایا، کر آقرب نے ٹو تو پکارا تجھے نے میں جب

58 רַבָּתִי אֲדִינִי רִיבִי נַפְשִׁי נֶאֱלָתָה חַיִּי:  
لڑا-ٹو-نے خداوند مقدمے میری-جان-کے فدبہ-دیا-ٹو-نے میری-زندگی  
H7378 H0136 H7379 H5315

دیا۔ بھی عوضانہ کا جان میری نے ٹو بلکہ لڑا، مقدمہ میں حق میرے میں عدالت ٹو رب، اے

59 רְאִיתָה יְהוָה עֲוֹנֹתַי שָׁפְטָה מִשְׁפָּטִי:  
دیکھا-ٹو-نے یہوواہ میری-ہے-انصافی فیصلہ-کر میرا-مقدمہ  
H7200 H3068 H5792 H8199 H4941

کرا! انصاف میرا اب ہے۔ آتا نظر صاف تجھے وہ ہوا پر مجھ ظلم جو رب، اے

60	רְאוּתָהּ	כָּל-	נִקְמָתָם	כָּל-	מִחֲשָׁבָתָם	לִי:	ס
	دیکھا-ٹو نے	سب	اُن-کا-انتقام	سب	اُن-کے-منصوبے	میرے-خلاف	-
	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H5360</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4284</a>		

ہے۔ واقف ٹو سے اُن ہیں کی خلاف میرے نے اُنہوں سازشیں بھی جتنی ہے۔ دی توجہ پر پروری کینہ تمام کی اُن نے ٹو

61	שָׁמַעַתָּ	חֲרָפְתָם	יְהוָה	כָּל-	מִחֲשָׁבָתָם	עָלַי:	
	سُنا-ٹو نے	اُن-کی-ملامت	یہوواہ	سب	اُن-کے-منصوبے	میرے-خلاف	
	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H2781</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H4284</a>		

ہیں۔ گئے پہنچ تک کان تیرے منصوبے تمام خلاف میرے کے اُن طعن، لعن کی اُن رب، اے

62	שָׂפָתַי	קָמִי	וְהִיזְנִים	עָלַי	כָּל-	הַיּוֹם:	
	بونٹ	دشمنوں-کے	اور-اُن-کی-بڑبڑ	میرے-خلاف	سارا	دن	
	<a href="#">H8193</a>		<a href="#">H1902</a>		<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H3117</a>	

ہے۔ آشنا خوب ٹو سے اُس ہیں بڑبڑاتے اور بھسپھساتے خلاف میرے دن پورا مخالف میرے کچھ جو

63	שִׁבְתָּם	וְקִימָתָם	הַבִּיטָה	אֲנִי	מִנִּינָתָם:	ס	
	اُن-کا-بیٹھنا	اور-اُن-کا-اٹھنا	دیکھ	میں	اُن-کا-گیت	-	
	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H7012</a>	<a href="#">H5027</a>	<a href="#">H0589</a>	<a href="#">H4485</a>		

ہیں۔ بناتے نشانہ کا مذاق اپنے مجھے میں گیتوں اپنے وہ وقت ہر بوں، کھڑے یا بیٹھے خواہ ہیں! کرتے کیا یہ کہ دیکھ

64	תְּנִיב	לָהֶם	נְמוּלָ	יְהוָה	כְּמַעֲשֵׂהָ	יְדִיָּהֶם:	
	لونا	اُن-کو	بدلہ	یہوواہ	کے-مطابق	اُن-کے-باتھوں-کے	
	<a href="#">H7725</a>		<a href="#">H1576</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H4639</a>	<a href="#">H3027</a>	

دے! اجر مناسب کا حرکتوں کی اُن اُنہیں رب، اے

65	תִּתֵּן	לָהֶם	מִנְנֹת-	לֵב	תִּאֲלָתֶיךָ	לָהֶם:	
	دے	اُن-کو	اندھاپن	دل-کا	تیرا-لعنت	اُن-کو	
	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H4044</a>		<a href="#">H8381</a>	<a href="#">H1992</a>	

پڑے! آ پر اُن لعنت تیری کر، گُند کو ذنبوں کے اُن

66	תִּרְדָּךְ	בְּאַף	וְתִשְׁמִידָם	מִתַּחַת	שָׁמַי	יְהוָה:	פ
	پیچھا-کر	-غضب-میں	اور-مٹا-دے-اُن-کو	نیچے-سے	آسمانوں	یہوواہ-کے	-
	<a href="#">H7291</a>	<a href="#">H0639</a>	<a href="#">H8045</a>	<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H3068</a>	

رہ! کرتا تعاقب کا اُن جائیں ہو نہ غائب سے نیچے کے آسمان تیرے وہ تک جب کرا نازل غضب پورا اپنا پر اُن